



## سوال

اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت پابندی سے ادا نہیں کرتا، کیا اُس کی امامت میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟

## جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

انسان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے جب انسان خطبہ جمعہ میں دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کا اپنا کردار بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کا یہ رویہ قابل مذمت ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا نہ کرے، تو جو خود اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہو اس کا نماز باجماعت ادا نہ کرنا زیادہ قابل مذمت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

تَأْتُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (البقرة: 44)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟

1. اگر خطیب بغیر کسی شرعی عذر کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تو اسے لچھے انداز سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اسے اصلاح کا موقع دینا چاہیے، اس دوران اس کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اگر وہ بار بار نصیحت کرنے کے باوجود اپنا رویہ تبدیل نہ کرے تو کسی نیک صفت عالم آدمی کو خطیب رکھ لینا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

فضیلۃ الشیخ عبدالکلیم بن محمد بلال

فضیلۃ الشیخ اسحاق زاہد

فضیلۃ الشیخ عبدالخالق حفظہ اللہ